

وڈیو 1
ELBP کیا ہے

منظر	بیان
1	کینیڈا میں اور آپ کے فرانسیسی زبان کی کلاس میں خوش آمدید! جیسے جیسے آپ یہاں وقت گزارتے ہیں، آپ فرانسیسی زبان سیکھیں گے اور کینیڈا میں رہن سہن کے بارے میں جانیں گے۔
2	آپ کی کلاس میں، آپ کا انسٹرکٹر آپ کو یہ دکھانے کے لئے پورٹ فولیو بیسڈ اینگویج اسیمنٹ (پورٹ فولیو پر مبنی زبان کی تشخیص)، یا ELBP کا استعمال کرتا ہے، کہ آپ کی زبان کس قدر بہتر ہو رہی ہے۔
3	آپ وقت کے ساتھ ساتھ فرانسیسی زبان سیکھیں گے، اور اپنے انسٹرکٹر سے جتنا زیادہ سیکھیں گے اور جس قدر آپ مشق کریں گے، اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے۔
4	آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ اس میں مدد کے لئے، آپ کو اپنا پورٹ فولیو موصول ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا استاد اسے آپ کا ہائنڈر کہے۔
5	یہ آپ کا ہائنڈر ہے جسے آپ اپنے FLS کلاس روم میں استعمال کریں گے۔ ہم کلاس روم میں ملتے ہیں!

وڈیو 2
آپ کا ELBP استعمال کرتے ہیں

منظر	بیان
1	اپنے کلاس روم میں، آپ سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مشق کریں گے۔ اس سے آپ کی فرانسیسی زبان کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
2	جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے آپ اپنے ہائنڈر میں ڈال دیں گے۔
3	وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فرانسیسی زبان کیسے بہتر ہو رہی ہے۔
4	آپ جو کچھ سیکھ چکے ہیں اس کا جائزہ لے سکیں گے اور اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کو کیا بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور آگے کیا سیکھنا چاہیے۔
5	آپ کے ہائنڈر میں کینیڈا میں رہنے اور فرانسیسی زبان سیکھنے کے بارے میں بھی بہت عمدہ معلومات ہیں۔
6	یہ ہائنڈر آپ کے کلاس روم میں اور گھر میں استعمال کرنے کے لئے ہے۔

وڈیو 3
ELBP کا استعمال کیوں کریں

منظر	بیان
1	آپ کی کلاس میں، آپ کا انسٹرکٹر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ایسے عنوانات کا انتخاب کر سکتے ہیں جو کینیڈا میں آپ کی روز مرہ زندگی میں مددگار ثابت ہوں۔
2	وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فرانسیسی زبان کیسے بہتر ہو رہی ہے۔
3	جیسے جیسے آپ کی فرانسیسی زبان بہتر ہوتی جاتی ہے، آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام کر پائیں گے جیسے خریداری کرنا۔
4	سوچئیے، فرانسیسی زبان سیکھنے سے آپ کی زندگی میں کیا کرنے میں مدد ملے گی؟
5	اپنے ہائنڈر کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں۔

فرائسی زبان میں صداقت نامے (ٹیسٹیمونیلز)

ان وڈیوز میں شریک ہونے والے فرانسیسی زبان سیکھ رہے ہیں۔ تحریری رکارڈ کی ہوائی نقل (ٹرانسکرپشن) کے کچھ حصوں میں وضاحت کے لئے ترمیم کی گئی ہے۔

وائس اور: کلاس میں ELBP استعمال کرنے سے آپ کو فرائسی زبان سیکھنے میں مدد ملے گی۔ آئیے سنیں کہ کچھ سیکھنے والوں کا کیا کہنا ہے۔

وائس اور: آپ اپنا پورٹ فولیو کب استعمال کرتے ہیں؟

میں کلاس میں ہر وقت اپنا پورٹ فولیو استعمال کرتا ہوں۔

کلاس اور گھر میں ہر دن۔

میں نے کلاس میں جو کام انجام دیئے تھے ان کو چیک کرنے کے لیے۔

ہر وقت۔ مثال کے طور پر، کسی کو اس کی نوکری کی تلاش میں مدد کرنے کے لیے۔

میرے نوٹس کا جائزہ لینے کے لئے۔

جب مجھے اپنی زبان کا معیار جانچنے کی ضرورت ہو۔

جب میں اپنے نوٹ اور دستاویزات کو منظم کرنا چاہتا ہوں۔

میری گاڑی میں بھی۔

وائس اور: آپ اپنے پورٹ فولیو میں کیا رکھتے ہیں؟

میں اپنے پورٹ فولیو میں ایک نوٹ بک رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ پروگرام کے تمام ورک شیٹس (کاغذات)۔ گرامر کی مشقیں، الفاظ کی مشقیں۔

میں اپنے نوٹ پورٹ فولیو میں رکھتا ہوں۔

اس میں کینیڈا کے نئے شہریوں کے لئے مفید مہارت سے متعلق کچھ جزو ہیں۔

میں اپنا کام اور اپنا ہوم ورک اس میں رکھتا ہوں۔

وائس اور: آپ کا پورٹ فولیو آپ کی مدد کیسے کرتا ہے؟

میرے لئے میرا پورٹ فولیو ایک مختصر رہنما کتاب (ہینڈ بک) کی طرح ہے۔

یہ جائزہ لینے اور مطالعہ کرنے کے لئے آسان ہے۔

میرا پورٹ فولیو مجھے کینیڈا کے بارے میں بہت سی چیزیں سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔

یہ تنظیم، تشخیص، اور بلاشبہ فرائسی زبان سیکھنے میں بھی میری مدد کرتا ہے۔

میرا پورٹ فولیو مجھے منظم رہنے اور نئی چیزیں سیکھنے میں مدد کرتا ہے۔

میرا پورٹ فولیو میری بہت مدد کرتا ہے۔

وائس اوور: آپ اپنا پورٹ فولیو استعمال کرنا کیوں پسند کرتے ہیں؟

مجھے پورٹ فولیو پسند ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے منظم ہے۔
مجھے اپنا پورٹ فولیو استعمال کرنا پسند ہے کیونکہ اس سے مجھے فرانسیسی زبان سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔
مجھے اپنا پورٹ فولیو پسند ہے کیونکہ اس سے مجھے بہت مدد ملتی ہے۔

وائس اوور: ELBP ان سیکھنے والوں کے لئے مددگار ثابت ہوا ہے۔ آئیے دیکھیں ELBP آپ کی بھی کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ جلد ملیں گے!